

ملازمت کی ضرورت ہے۔ Job Required

Philippians 4.19 But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus

فلیپی 4.19

میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔

Matthew 7 7-11 Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened unto you: For every one that asks receives; and he that seeks finds; and to him that knocks it shall be opened. Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a snake? If you then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him.

متھیو 7.7 سے 11

مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔

کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اُسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے واسطے کھولا جائے گا۔

تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اُس کا بیٹا اُس سے روٹی مانگے تو وہ اُسے پتھر دے؟ یا اگر مچھلی مانگے تو اُسے سانپ دے؟

پس جبکہ تم بُرے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟

Proverbs 3 5-6 Trust in the Lord with all your heart; and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths.

امثال 3.5 اور 6

سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔
اپنی سب راہوں میں اُسکو پہچان اور وہ تیری راہنمائی کریگا۔ 6

Psalms 37 4 and 5 Delight yourself also in the Lord: and he shall give you the desires of your heart. Commit your way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass.

خُداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کریگا۔
اپنی راہ خُداوند پر چھوڑ دے اور اُس پر ٹوکل کر۔ وہی سب کچھ کریگا۔⁵

Ecclesiastes 9.10 Whatsoever your hand finds to do, do it with your might.

واعظ 9.10

جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اُسے مقدور بھر کر کیونکہ پاتال میں جہاں تو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ۔ نہ علم نہ حکمت۔

2 Thessalonians 3 10-13 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you in a disorderly manner, not working at all, but are busybodies. Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread. But you, brethren, be not weary in well doing.

تھسلونیکیوں 103 سے 213

اور جب ہم تمہارے پاس تھے اُس وقت بھی تم کو یہ حکم دیتے تھے کہ جسے محنت کرنا نہ منظور نہ ہو وہ کھانے بھی نہ پائے۔

ہم سنتے ہیں کہ تم میں بعض بے قاعدہ چلتے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اوروں کے کام میں دخل دیتے ہیں۔

ایسے شخصوں کو ہم خُداوند یسوع مسیح میں حکم دیتے اور نصیحت کرتے ہیں کہ چپ چاپ کام کر کے اپنی ہی روٹی کھائیں۔

اور تم آے بھائیو! نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہارو۔